پری فزیبلیٹی تحقیق

(انٹرنیٹ کیفے)

سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹی

وزارت صنعت و پیداوار

حکومت پاکستان

www.smeda.org.pk

ہیڈ آفس
فورتھ فلور، بلڈنگ نمبر 3، ایوانِ اقبال کمپلیکس، ایجرٹن روڈ، لاہور۔
فون92 42 111 111 456
فیکس92 42 36304926-7
helpdesk@smeda.org.pk

ریجنل آفس پنجاب
بلڈنگ نمبر 3، فلور 3، ایوان اقبال کمپلیکس، ایجرٹن روڈ، لاہور
ٹیلی فون:(042) 111-111-456
فیکس نمبر:(0423) 36304926-7
helpdesk.punjab@smeda.org.pk

ریجنل آفس سندھ
بحریہ کمپلیکس 2، فلور 5، ایم ٹی خان روڈ، کراچی
ٹیلی فون:(021) 111-111-456
فیکس نمبر:(021) 35610572
helpdesk-sindh@smeda.org.pk

ریجنل آفس خیبر پختونخوا
گراؤنڈ فلور، سٹیٹ لائف بلڈنگ، دی مال، پشاور
ٹیلی فون:(091) 9213046-47
فیکس نمبر:(091) 5286908
helpdesk-khyberpakhtunkhawa@smeda.org.pk

ریجنل آفس بلوچستان
بنگلو نمبر:15-A، چمن ہاؤسنگ سکیم، ایئرپورٹ روڈ، کوئٹہ
ٹیلی فون:(081) 2831623, 2831702
فیکس نمبر:(081) 2831922
helpdesk-balochaistan@smeda.org.pk

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے وزیراعظم یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

فہرست نمبر	فہرست عنوانات	صفحہ نمبر
1	اظہار لاتعلقی	2
2	دستاویز کا مقصد	2
3	سمیڈا کا تعارف	2
4	سکیم کا تعارف	3
5	اجمالی جائزہ	3
6	کاروبار او مصنوعات کا مختصر بیان	3
7	انتہائی قابل توجہ امور	4
8	ابتدائی اور عملی استعداد	4
9	متوقع منڈیاں اور تجارتی علاقے	4
10	منصوبے کی کل لاگت کا خلاصہ	4
10.1	معاشی کیفیت	4
10.2	درکار سرمایہ	5
10.3	کل لاگت کاروبار	5
10.4	درکار زمین	5
10.5	مشینری اور آلات	6
10.6	فرنیچر اور سامان	6
10.7	درکار افرادی قوت	7
10.8	آمدن۔متوقع آمدن اور پیداوار	7
11	ضمیمہ جات(Annexures)	8
11.1	آمدن کا گوشوارہ	8
11.2	اثاثوں اور واجبات کا گوشوارہ (بلینس شیٹ)	9
11.3	گردش نقد کا (کیش فلو شیٹ)	10
11.4	سود مند انتظامی تجاویز	11
11.5	کارآمد روابط	11
12	کلیدی مفروضے	12

نوٹ۔سمیڈا کی جانب سے وزیراعظم یوتھ بزنس لون سے متعلق تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

1۔ اظہارِ لاتعلقی (DISCLAIMER)

یہ معلوماتی دستاویز موضوع سے متعارف کرواتی اور اس بارے میں عمومی تصور اور معلومات دیتی ہے۔ اگرچہ، اس دستاویز میں شامل مواد مختلف باوثوق ذرائع سے جمع کردہ ڈیٹا/ معلومات پر مبنی ہے، مگر اس کی بنیاد مخصوص مفروضات پر بھی ہے جو مختلف صورتوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ معلومات کی درستگی یا معتبریت کے بارے میں کوئی دعویٰ یا یقین دہانیوں کے بغیر من وعن پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس دستاویز کی تدوین میں حد درجہ احتیاط اور توجہ برتی گئی ہے، لیکن اس میں دی گئی معلومات متعلقہ عوامل میں کسی تبدیلی کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہیں، اور اصل نتائج پیش کردہ معلومات سے خاصے مختلف ہو سکتے ہیں۔ سمیڈا (SMEDA)، اس کے ملازمین اور ایجنٹ اس دستاویز کی وجہ سے کی گئی کسی سرگرمی کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی مالی یا دیگر نقصان کے ذمہ دار نہیں۔ شامل معلومات مزید کسی پروفیشنل مشاورت کو خارج از امکان نہیں بناتی۔ اس دستاویز کے متوقع استعمال کنندگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اضافی کاوش کریں اور ایک باوثوق فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات اکٹھی کریں، بشمول معلومات پر عمل کرنے کے کسی بھی فیصلے سے قبل کسی کنسلٹنٹ/تکنیکی ماہر کے ساتھ پروفیشنل مشاورت کے۔

سمیڈا کی جانب سے پیش کردہ خدمات کے متعلق مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائیٹ پر رابطہ کریں: www.smeda.org.pk

2۔ دستاویز کا مقصد (PURPOSE OF THE DOCUMENT)

ابتدائی امکانات جانچنے کی اس سٹڈی کا بنیادی مقصد ممکنہ کاروباری افراد کو سرمایہ کاری کے لیے پروجیکٹ کی شناخت میں معاونت دینا ہے۔ پروجیکٹ کی ابتدائی جانچ سرمایہ کاری کے اہم فیصلوں کی بنیاد مہیا کر سکتی ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خاطر یہ دستاویز/سٹڈی پروجیکٹ کا بنیادی تصور وضع کرنے، آغاز اور پروڈکشن، مارکیٹنگ، فنانس اور کاروبار چلانے کے انتظامات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔

اس دستاویز کا مقصد ممکنہ سرمایہ کاروں کو انٹرنیٹ کیفے میں سرمایہ لگانے کے لیے کاروبار کی عمومی تفہیم مہیا کرنا ہے تاکہ انہیں سرمایہ کاری کے اہم فیصلوں میں مدد ملے۔

دستاویزی معلومات سے محروم یا بہت کم دستاویزی معلومات والے شعبوں کے لیے ابتدائی جائزہ رپورٹیں تیار کرنے کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ نمایاں ہوگئی ہے کیونکہ اس قسم کی رپورٹوں سے پہلے کی ریسرچ مخصوص ٹوٹکے، آزمائش اور خطا کے ذریعے موجودہ کاروباروں کے وضع کردہ بہترین طور طریقے اور مخصوص صنعتی طریقے آشکار کرتی ہیں جو کاروبار قائم کرنے اور کامیاب طریقے سے چلانے کے مختلف پہلوؤں میں راہنما اصول بن گئے۔

پوری دستاویز کا بغور کرنے کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آگے چیے گئے اہم پہلوؤں کا خیال رکھیں جو سرمایہ کاری کے کسی بھی فیصلے کی بنیاد ہیں۔

3۔ سمیڈا کا تعارف (INTRODUCTION TO SMEDA)

چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی ترقی کا ادارہ (سمیڈا) حکومت پاکستان نے 1998ء میں قائم کیا تاکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے (SME) کو ترقی دینے کے ذریعے معیشت میں نئی جان ڈالی جاسکے۔

''روزگار پیدا کرنے اور قومی آمدنی میں بڑھوتری میں معاونت'' کے جذبے کے ساتھ، SME شعبے کو ترقی دینے کے ذریعے، SMEs کی تعداد، دائرۂ عمل اور مسابقت کو فروغ دینے کے ذریعے 'سمیڈا نے' مخصوص شعبوں کی ریسرچ 'انجام دی ہے تاکہ پالیسی، فنانس تک رسائی، کاروبار کے فروغ کی خدمات، اہم اقدامات اور ادارے کی سطح پر اشتراکِ عمل اور نیٹ ورکنگ کے اقدامات کو شناخت کیا جاسکے۔

سرمایہ کاری کے کلیدی شعبوں میں ابتدائی تحقیقی جائزوں کی تیاری اور تشہیر سمیڈا کی جانب سے SME معاونت کا نشانِ امتیاز رہا ہے۔

ان ابتدائی تحقیقی جائزوں کے ساتھ ساتھ سمیڈا نے SMEs کو وسیع پیمانے پر فروغِ کاروبار کی خدمات بھی پیش کی ہیں۔ ان خدمات میں ہیلپ ڈیسک سروسز کے ذریعے کاروباری راہنمائی کے علاوہ ماہرین اور کنسلٹنٹس کی نشاندہی اور ضروریات کی بنیاد پر تعمیرِ استعداد کے مختلف النوع پروگرام بھی شامل ہیں۔

نوٹ۔ سمیڈا کی جانب سے وزیراعظم یوتھ بزنس لون سے متعلق تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

4۔ سکیم کا تعارف (INTRODUCTION TO SCHEME)

نوجوان کاروباری افراد کے لیے پانچ ارب روپے کی لاگت سے وزیراعظم کی جانب سے شروع کی گئی ''چھوٹے کاروباری قرضوں کی سکیم'' برائے سال 14-2013ء کا مقصد نامزد کردہ مالیاتی اداروں کے ذریعے ایک لاکھ افراد کو 8 فیصد مارک اپ کی سبسڈی پر فنانس مہیا کرنا ہے اور ابتدائی طور پر یہ کام نیشنل بینک آف پاکستان اور فرسٹ وویمن بینک لمیٹڈ کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔

آٹھ سال تک کی معیاد کے لئے اور 10:90 تناسب کا قرضہ (Debt) اور ذاتی سرمایہ (Equity) کے ساتھ چھوٹے کاروباری قرضے پاکستان بھر میں SME مالکان کو دیئے جائیں گے جس میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں وکشمیر اور فاٹا کو متناسب نمائندگی دی جائے گی۔

روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور قومی آمدنی میں اضافے کے لئے چلنے والی اس سکیم کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے کی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔

سکیم کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے میں وسعت اور مقابلے کے رجحان کے لئے حکومت ہر ممکن معاونت فراہم کر رہی ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو ترقی دینے کے ادارے SMEDA نے وزیراعظم کی ہدایت پر پچاس سے زائد شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔

تاہم سکیم کا دائرہ کار صرف انہی پچاس قسم کے کاروبار تک محدود نہیں ہے۔ کاروباری افراد کسی بھی بہتر منصوبے کی نشاندھی کر سکتے ہیں۔ SMEDA کاروبار کی منصوبہ بندی کیلئے ہر طرح کی تکنیکی رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور اس سلسلے میں ادارے کی ویب سائٹ www.smeda.org.pk سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

5۔ اجمالی جائزہ (EXECUTIVE SUMMARY)

پری فزیبلٹی سٹڈی ہذا کے مطابق مجوزہ نیٹ کیفے کمرشل ایریا میں قائم کیا جائے گا جو سٹوڈنٹس اور درمیانی آمدنی والے گروپ کے کاروباری افراد کے نزدیک ہو۔ اس بزنس میں بہت ساری سروسز مثلاً انٹرنیٹ سرفنگ، آڈیو/ وڈیو چیٹ، پرنٹنگ، سکینگ اور فیکس فراہم کی جائیں گی۔ مزید برآں یہ بزنس دن میں 16 گھنٹے پر مبنی ہوگا۔

انٹرنیٹ کیفے کے قیام کے لیے کل ابتدائی لاگت کا اندازہ 0.54 ملین روپے لگایا گیا ہے جس میں سے 0.09 ملین روپے ورکنگ کیپیٹل کے ساتھ کیپٹل کاسٹ 0.45 ملین روپے ہے۔ منصوبے کو بذریعہ 90% قرضہ اور 10% ذاتی ملکیت فنانس کیا جائے گا۔ موجودہ قدر حاصل (این پی وی) کا اندازہ 3.94 ملین روپے لگایا گیا ہے جبکہ اندرونی شرح منافع (آئی آر آر) 76% اور پے بیک پیریڈ 1.61 سال ہوگا۔ منصوبے کی قانونی کاروباری حیثیت سول پروپرائٹرشپ ہے۔

اس کاروبار میں انتہائی اہم کاروباری فرد/ سٹاف کا ماضی، تجربہ اور تکنیکی اہلیت کار آمد ثابت ہوگی۔

6۔ کاروبار و مصنوعات کا مختصر بیان (BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT & PRODUCT)

انٹرنیٹ کیفے بنانے کے لیے سرمایہ کار کو کسی مشہور خدمات مہیا کرنے والے سے ہائی بینڈ وڈتھ انٹرنیٹ کنکشن کے حصول کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ ایسی جگہ بنانا چاہیے جو اچھی طرح نظر آئے اور وہاں پر سٹوڈنٹس اور کاروباری افراد کی آسانی سے رسائی ہو سکے۔ بزنس بڑے شہروں میں کسی بھی ایسی جگہ قائم کیا جا سکتا ہے جہاں یہ اچھی طرح سے نظر آ سکے اور جہاں ہر کسی خاص طور پر سٹوڈنٹس اور درمیانی آمدنی والے گروپ کے کاروباری افراد کی آسانی سے رسائی ہو۔ انٹرنیٹ کیفے تمام انٹرنیٹ وسائل کے ساتھ ساتھ دیگر آن لائن سروسز، پرنٹنگ، سکینگ اور فیکس سروسز فراہم کرے گا۔ پری فزیبلٹی سٹڈی ہذا میں انٹرنیٹ کیفے ایک کرائے کی بلڈنگ میں قائم کیا جائیگا جس کا کل رقبہ 250 مربع فٹ کے قریب ہوگا اور جو اچھی سپیڈ والے انٹرنیٹ کنکشن کے ساتھ بجلی اور ٹیلی فون کے کنیکشن کا حامل ہوگا۔ 0.54 ملین روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ یہ کاروبار انٹرنیٹ، آڈیو/ وڈیو چیٹ، پرنٹنگ، سکینگ، فیکس اور دیگر سروسز اپنے کلائنٹس کو فراہم کرے گا جو ابتدائی طور پر درمیانی آمدنی والے لوگ ہوں گے۔ نیٹ کیفے دن میں 16 گھنٹے چلے گا۔ سالانہ 10% اضافہ اور دو ملازمین کے ساتھ پہلے سال نیٹ کیفے کی ابتدائی فروخت کے حجم کا اندازہ 1.20 ملین روپے لگایا گیا ہے۔ مجوزہ کاروبار مالکانہ حقوق کی بنیاد پر قائم ہوگا۔

7۔ انتہائی قابلِ توجہ امور (CRITICAL FACTORS)

کامیاب انٹرنیٹ کیفے چلانے کے لیے اہم عوامل نیچے درج ہیں۔

☆اس کاروبار میں انتہائی اہم کاروباری فرد/سٹاف کا ماضی، تجربہ اور تکنیکی اہلیت کارآمد ثابت ہوگی۔

☆ مناسب جگہ کا انتخاب ترجیحا درمیانی آمدنی والے افراد کی ہاوسنگ سوسائٹیاں اور پرائیویٹ ہوسٹلز

☆ ویلیوایڈیڈ خدمات مثلاوڈیو/آڈیو چیٹ،اچھے پرنٹر،سکینراور فیکس مشین کی دستیابی۔

☆ کوالٹی سروسز کی فراہمی،انٹرنیٹ سپیڈاور کیفے کا عمومی ماحول۔

8۔ ابتدائی و عملی استعداد (INSTALLED & OPERATIONAL CAPACITIES)

مجوزہ منصوبہ انفرادی کیبن کے ساتھ 6 کمپیوٹرز کے ساتھ شروع ہوگا جس کے ساتھ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو پرنٹر،سکینراور فیکس مشین کی سہولت ہوگی۔اس کے علاوہ کیفے میں ایک اے سی لگا ہوگا جوانٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کوزیادہ دیر تک سکون کے ساتھ کام کرنے کی سہولت فراہم کرے گا۔یہ کام کرنے والے کاروباری افراد کے لیے ضروری ہے کہ سافٹ ویئر/ ہارڈ ویئرانسٹالیشن،کمپیوٹرنیٹ ورکنگ،ٹربل شوٹنگ اور انٹرنیٹ کے استعمال سے خوب واقف ہوں۔

9۔ متوقع منڈیاں اور تجارتی علاقے (POTENTIAL TARGET MARKETS / CITIES)

انٹرنیٹ کیفے آسانی سے رسائی اور زیادہ آبادی والی جگہ پر موجود ہونا چاہیے ترجیحا یہ سٹوڈنٹس ہاسٹلز اور ابتدائی طور پر درمیانے درجے کی آمدنی والے کاروباری افراد کے نزدیک ہونا چاہیے۔مجوزہ کاروبار پاکستان کے کسی بھی شہر میں شروع کیا جاسکتا ہے

10۔ منصوبے کی کل لاگت کا خلاصہ (PROJECT COST SUMMARY)

وزیراعظم کی سمال بزنس لون سکیم کے تحت انٹرنیٹ کیفے کی تجارتی نمو کے لیے ایک مفصل ماڈل تیار کیا گیا ہے۔اس حصے میں تجزیوں کے نتائج کے ساتھ مختلف لاگت اور ریونیو سے متعلق مفروضے دیے گئے ہیں۔مجوزہ انکم سٹیٹمنٹ،کیش فلو سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ساتھ منسلک ہیں۔

10.1۔ معاشی کیفیت (PROJECT ECONOMICS)

درج ذیل ٹیبل اندرونی شرح منافع (انٹرنل ریٹ آف ریٹرن)،کل لاگت کی مدت واپسی (پے بیک پیریڈ) اور موجودہ قدر حاصل (این پی وی) بتائے گا۔

جدول نمبر 1: معاشی کیفیت

مندرجات	تفصیلات
اندرونی شرح منافع(IRR)	76%
کل لاگت کی مدت واپسی (سال)	1.61
موجودہ قدر حاصل(NPV)	3,938,623

سرمایہ کاری پر آمدن اور منافع کاری، کاروباری افراد کے سافٹ ویئر/ ہارڈ ویئرانسٹالیشن، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کے علم پر بہت زیادہ منحصر ہے۔مجوزہ انٹرنیٹ کیفے انٹرنیٹ سروسز کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ،سکیننگ اور فیکس سروسز بھی فراہم کرے گا۔

10.2۔ درکارسرمایہ (PROJECT FINANCING)

درج ذیل جدول مطلوب ذاتی سرمایہ اور بینک کی سرمایہ کاری سے متعلق تفصیل فراہم کرے گا۔

جدول نمبر 2: درکار سرمایہ

مندرجات	تفصیلات
مجموعی ذاتی سرمایہ (10 فیصد)	54,220روپے
بینک کا قرضہ (90 فیصد)	487,978روپے
قرض پر سالانہ سود کی شرح	8فیصد
قرضہ کا دورانیہ	8سال
رعایتی مدت	1سال

10.3۔ کل لاگت کاروبار (PROJECT COST)

مجوزہ منصوبے کے لیے درج ذیل مطلوبات کی نشاندہی کی گئی ہے۔

جدول نمبر 3: کل لاگت کاروبار

مندرجات	لاگت (روپے)
فرنیچر اور دیگر سامان	151,000
انٹرنیٹ کیفے کا سامان	247,275
تزئین و آرائش	30,000
قبل از عمل لاگت	17,334
کل مستقل لاگت	**445,609**
ابتدائی گردشی سرمایہ	96,588
کل لاگت کاروبار	**542,198**

10.4۔ درکار زمین (SPACE REQUIREMENT)

اندازاً انٹرنیٹ کیفے کے لیے 250 مربع فٹ جگہ درکار ہوگی۔ تجویز کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیفے کی جگہ کرائے پر لی جائے۔ مجوزہ جگہ کا کرایہ 10,000 سے 15,000 روپے ہونا چاہیے۔ مالیاتی تجزیے کے مطابق کرایہ ماہانہ 11,250 روپے تصور کیا گیا ہے۔

10.5۔ مشینری اور آلات (OFFICE EQUIPMENT DETAILS)

منصوبے کے لیے مختلف سامان کی تفصیل درج ذیل ٹیبل میں دی گئی ہے۔

جدول نمبر 4: مشینری اور آلات

مجموعی لاگت (روپوں میں)	لاگت فی یونٹ (روپوں میں)	مقدار	آلات
108,000	18,000	6	تجدید شدہ کمپیوٹرز
2,500	2,500	1	وائرلیس راؤٹر
9,000	1,500	6	کیمرہ
70,000	70,000	1	یو پی ایس بمعہ دو عدد بیٹریز
3,000	500	6	ہیڈ فون
20,000	20,000	1	پرنٹر کلر
5,000	5,000	1	سکینر
8,000	8,000	1	انٹرنیٹ کنکشن انسٹالیشن
10,000			بجلی کا کام (وائرنگ)
11,775			متفرق
247,275			**کل سامان**

10.6۔ فرنیچر ولوازمات (FURNITURE & FIXTURE)

فرنیچر اور سامان کی تفصیل حسب ذیل ہوگی۔

جدول نمبر 5: فرنیچر اور سامان

کل لاگت (روپوں میں)	لاگت فی یونٹ (روپوں میں)	مقدار	مندرجات
45,000	7,500	6	کمپیوٹر ٹیبلز اور کیبن
30,000	5,000	6	کمپیوٹر کیلئے کرسیاں
1,000	1,000	1	ٹیلی فون سیٹ
15,000	15,000	1	فیکس مشین
5,000	5,000	1	سائن بورڈ
55,000	55,000	1	ائرکنڈیشنر
151,000			**مجموعی لاگت**

10.7۔ درکار افرادی قوت (HUMAN RESOURCE REQUIREMENT)

انٹرنیٹ کیفے 16 گھنٹے چلے گا۔ مجوزہ منصوبے کے لیے مطلوبہ افرادی قوت حسب ذیل ہو گی۔

جدول نمبر 6: درکار افرادی قوت

مندرجات	ملازمین کی تعداد	تنخواہ فی ماہ (روپوں میں)	سالانہ تنخواہ (روپوں میں)
مالک/نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر	1	20,000	240,000
لیب اسسٹنٹ	1	12,000	144,000
کل ملازمین	**2**		**384,000**

10.8۔ آمدن۔ متوقع آمدن اور پیداوار (REVENUE GENERATION)

پہلے سال انٹرنیٹ کیفے سے ہونے والے متوقع ریونیو کی تفصیل حسب ذیل جدول میں دی گئی ہے۔

جدول نمبر 7: متوقع آمدن اور پیداوار کا جدول

مندرجات	تفصیلات
انٹرنیٹ کے نرخ (فی گھنٹہ)	50
انٹرنیٹ کے استعمال سے حاصل شدہ آمدن	980,000
پرنٹنگ سے حاصل شدہ آمدن	175,000
سکیننگ سے حاصل شدہ آمدن	35,000
فیکس سے حاصل شدہ آمدن	14,000
مجموعی آمدن	**1,204,000**

سالانہ شرح نمو فروخت اندازاً 10% ہے۔

11۔ ضمیمہ جات (ANNEXURES)

11.1۔آمدن کا گوشوارہ (INCOME STATEMENT)

Income Statement	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Sales from Internet Hours	980,000	1,155,000	1,355,200	1,583,890	1,844,766	2,029,243	2,232,167	2,455,384	2,700,922	2,971,014
Sales from Printing	175,000	192,500	211,750	232,925	256,218	281,839	310,023	341,025	375,128	412,641
Sales from Scanning	35,000	38,500	42,350	46,585	51,244	56,368	62,005	68,205	75,026	82,528
Sales from Faxes	14,000	15,400	16,940	18,634	20,497	22,547	24,802	27,282	30,010	33,011
Total Sales	**1,204,000**	**1,401,400**	**1,626,240**	**1,882,034**	**2,172,724**	**2,389,997**	**2,628,997**	**2,891,896**	**3,181,086**	**3,499,194**
Cost of sales										
Internet Connection	30,000	33,000	36,300	39,930	43,923	48,315	53,147	58,462	64,308	70,738
Printing Charges	52,500	57,750	63,525	69,878	76,865	84,552	93,007	102,308	112,538	123,792
Fax Charges	4,200	4,620	5,082	5,590	6,149	6,764	7,441	8,185	9,003	9,903
Electricity Expense	180,000	198,000	217,800	239,580	263,538	289,892	318,881	350,769	385,846	424,431
Total cost of sales	266,700	293,370	322,707	354,978	390,475	429,523	472,475	519,723	571,695	628,865
Gross Profit	937,300	1,108,030	1,303,533	1,527,056	1,782,249	1,960,474	2,156,521	2,372,173	2,609,391	2,870,330
General administration & selling expenses										
Administration expense	384,000	422,400	464,640	511,104	562,214	618,436	680,279	748,307	823,138	905,452
Rent expense	135,000	148,500	163,350	179,685	197,654	217,419	239,161	263,077	289,384	318,323
Printing & Stationary	24,000	26,400	29,040	31,944	35,138	38,652	42,517	46,769	51,446	56,591
Entertainment	18,000	19,800	21,780	23,958	26,354	28,989	31,888	35,077	38,585	42,443
Repair & maintenance	27,879	30,667	33,734	37,107	40,818	44,900	49,390	54,329	59,762	65,738
Promotional expense	18,000	16,200	14,580	13,122	11,810	10,629	9,566	8,609	7,748	6,974
Depreciation expense	99,025	99,025	99,025	112,017	112,017	112,017	127,057	127,057	127,057	144,468
Amortization of pre-operating costs	3,467	3,467	3,467	3,467	3,467	-	-	-	-	-
Janitorial Expenses	24,000	26,400	29,040	31,944	35,138	38,652	42,517	46,769	51,446	56,591
Miscellaneous expense	7,680	8,448	9,293	10,222	11,244	12,369	13,606	14,966	16,463	18,109
Subtotal	741,051	801,307	867,949	954,570	1,035,855	1,122,063	1,235,982	1,344,961	1,465,030	1,614,688
Operating Income	196,249	306,723	435,584	572,486	746,394	838,411	920,539	1,027,212	1,144,361	1,255,642
Gain / (loss) on sale of office equipment	-	-	74,183	-	-	160,058	-	-	259,470	
Earnings Before Interest & Taxes	196,249	306,723	509,767	572,486	746,394	998,469	920,539	1,027,212	1,403,831	1,255,642
Interest expense on long term debt (Project Loan)	40,502	37,080	32,582	27,711	22,436	16,723	10,536	3,835	-	-
Interest expense on long term debt (Working Capital Loan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	40,502	37,080	32,582	27,711	22,436	16,723	10,536	3,835	-	-
Earnings Before Tax	155,747	269,643	477,185	544,775	723,958	981,746	910,004	1,023,377	1,403,831	1,255,642
Tax	-	-	7,718	14,477	32,396	69,762	59,000	76,006	133,074	110,846
NET PROFIT /(LOSS) AFTER TAX	**155,747**	**269,643**	**469,466**	**530,297**	**691,562**	**911,984**	**851,003**	**947,371**	**1,270,756**	**1,144,796**

نوٹ۔سمیڈا کی جانب سے وزیراعظم یوتھ بزنس لون سے متعلق تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

11.2۔اثاثوں اور واجبات کا گوشوارہ (BALANCE SHEET)

Balance Sheet

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Assets											
Current assets											
Cash & Bank	62,838	317,702	631,936	1,141,124	1,718,855	2,452,128	3,396,148	4,287,496	5,267,914	6,658,493	8,027,337
Pre-paid building rent	33,750	37,125	40,838	44,921	49,413	54,355	59,790	65,769	72,346	79,581	-
Total Current Assets	96,588	354,827	672,773	1,186,045	1,768,269	2,506,482	3,455,938	4,353,266	5,340,260	6,738,074	8,027,337
Fixed assets											
Building/Infrastructure	30,000	28,500	27,000	25,500	24,000	22,500	21,000	19,500	18,000	16,500	15,000
Furniture & fixtures	151,000	135,900	120,800	105,700	90,600	75,500	60,400	45,300	30,200	15,100	-
Cafe equipment	247,275	164,850	82,425	286,252	190,834	95,417	331,372	220,915	110,457	383,605	255,736
Total Fixed Assets	428,275	329,250	230,225	417,452	305,434	193,417	412,772	285,715	158,657	415,205	270,736
Intangible assets											
Pre-operation costs	17,334	13,867	10,401	6,934	3,467	-	-	-	-	-	-
Total Intangible Assets	17,334	13,867	10,401	6,934	3,467	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASSETS	**542,198**	**697,945**	**913,399**	**1,610,430**	**2,077,170**	**2,699,900**	**3,868,710**	**4,638,980**	**5,498,917**	**7,153,278**	**8,298,074**
Liabilities & Shareholders' Equity											
Current liabilities											
Total Current Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other liabilities											
Long term debt (Project Loan)	487,978	487,978	433,789	375,103	311,545	242,713	168,167	87,434	-	-	-
Total Long Term Liabilities	487,978	487,978	433,789	375,103	311,545	242,713	168,167	87,434	-	-	-
Shareholders' equity											
Paid-up capital	54,220	54,220	54,220	340,471	340,471	340,471	671,844	671,844	671,844	1,055,448	1,055,448
Retained earnings		155,747	425,390	894,856	1,425,153	2,116,716	3,028,700	3,879,703	4,827,074	6,097,830	7,242,626
Total Equity	54,220	209,967	479,610	1,235,328	1,765,625	2,457,187	3,700,543	4,551,547	5,498,917	7,153,278	8,298,074
TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES	**542,198**	**697,945**	**913,399**	**1,610,430**	**2,077,170**	**2,699,900**	**3,868,710**	**4,638,980**	**5,498,917**	**7,153,278**	**8,298,074**

نوٹ۔سمیڈا کی جانب سے وزیراعظم یوتھ بزنس لون سے متعلق تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جا رہی ہیں

11.3۔ گردشِ نقد کا گوشوارہ (CASH FLOW STATEMENT)

Cash Flow Statement

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Operating activities											
Net profit		155,747	269,643	469,466	530,297	691,562	911,984	851,003	947,371	1,270,756	1,144,796
Add: depreciation expense		99,025	99,025	99,025	112,017	112,017	112,017	127,057	127,057	127,057	144,468
amortization of pre-operating costs		3,467	3,467	3,467	3,467	3,467	-	-	-	-	-
Pre-paid building rent	(33,750)	(3,375)	(3,713)	(4,084)	(4,492)	(4,941)	(5,435)	(5,979)	(6,577)	(7,235)	79,581
Cash provided by operations	(33,750)	254,864	368,422	567,874	641,289	802,105	1,018,566	972,082	1,067,851	1,390,579	1,368,845
Financing activities											
Project Loan - principal repayment		-	(54,189)	(58,686)	(63,557)	(68,833)	(74,546)	(80,733)	(87,434)	-	-
Additions to Project Loan	487,978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Issuance of shares	54,220	-	-	286,252	-	-	331,372	-	-	383,605	-
Cash provided by/ (used for) financing activities	542,198	-	(54,189)	227,565	(63,557)	(68,833)	256,826	(80,733)	(87,434)	383,605	-
Investing activities											
Capital expenditure	(445,609)	-	-	(286,252)	-	-	(331,372)	-	-	(383,605)	-
Cash (used for) / provided by investing activities	(445,609)	-	-	(286,252)	-	-	(331,372)	-	-	(383,605)	-
NET CASH	**62,838**	**254,864**	**314,234**	**509,188**	**577,732**	**733,272**	**944,020**	**891,349**	**980,417**	**1,390,579**	**1,368,845**

11.4۔ سودمند انتظامی تجاویز (USEFUL MANAGEMENT TIPS)

☆ **درکار توانائی:** توانائی کو ضرورت کے مطابق حاصل کریں اور مسلسل فراہمی کے لیے متبادل ذرائع کا اہتمام کر کے رکھیں۔

☆ **مشینری کے سپلائرز:** مشینری سپلائی کرنے والوں سے ضروری تربیت اور بعداز فروخت سروس کی سہولت ضرور حاصل کریں۔

مارکیٹنگ:

فروخت و تقسیم کنندگان:

قیمت، بڑی رعایتیں، تعارفی رعایتیں وغیرہ: قیمت کم رکھنے کے لیے کوالٹی کے معیار پر کبھی سمجھوتہ نہ کریں، آغاز میں مشہوری کے لیے تعارفی قیمت کم رکھیں۔ قیمت مقرر کرنے سے پہلے اپنی پراڈکٹ پر آنے والی لاگت کو ضرور مدنظر رکھیں۔

افرادی قوت:

مہارت: ہنرمند اور تجربہ کار افرادی قوت کو ملازم رکھیں۔

کارکردگی کی بناء پر معاوضہ: کوشش کریں کہ ملازمین کو انکی کارکردگی کی بنیاد پر ملازمت سے منسلک رکھیں۔

تربیت: اپنی اور ملازمین کی ہنرمندی میں بذریعہ تربیت اضافہ کریں۔

11.5۔ کارآمد روابط (USEFUL LINKS)

- ☆...... Prime Minister's Office, www.pmo.gov.pk
- ☆...... Small and Medium Enterprises Development Authority, www.smeda.org.pk
- ☆...... National Bank of Pakistan (NBP), www.nbp.com.pk
- ☆...... First Women Bank Limited (FWBL), www.fwbl.com.pk
- ☆...... Government of Pakistan, www.pakistan.gov.pk
- ☆...... Ministry of Industries & Production, www.moip.gov.pk
- ☆...... Ministry of Education, Training & Standards in Higher Education, http://moptt.gov.pk
- ☆...... Government of Punjab, www.punjab.gov.pk
- ☆...... Government of Sindh, www.sindh.gov.pk
- ☆...... Government of Khyber Pakhtunkhwa, www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk
- ☆...... Government of Balochistan, www.balochistan.gov.pk
- ☆...... Government of Gilgit Baltistan, www.gilgitbaltistan.gov.pk
- ☆...... Government of Azad Jamu Kashmir, www.ajk.gov.pk
- ☆...... Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), www.tdap.gov.pk
- ☆...... Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), www.secp.gov.pk
- ☆...... Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) www.fpcci.com.pk
- ☆...... State Bank of Pakistan (SBP), www.sbp.org.pk
- ☆...... Pakistan Institute of Fashion Design (PIFD), www.pifd.edu.pk
- ☆...... Pakistan Fashion Design Council (PFDC), www.pfdc.org

12۔ کلیدی مفروضے (KEY ASSUMPTIONS)

جدول نمبر 8: آپریٹنگ مفروضات

روزانہ اوقات کار (گھنٹے)	**16**
سالانہ اوقات کار (دن)	**350**

جدول نمبر 9: آمدن کے مفروضے

انٹرنیٹ کے استعمال سے حاصل شدہ آمدن	
50 روپے فی گھنٹہ	980,000 (سالانہ)
پرنٹنگ سے حاصل شدہ آمدن	
25 پیج فی دن (فی پیج 20 روپے)	175,000 (سالانہ)
سکینر کے استعمال سے حاصل شدہ آمدن	
10 پیج فی دن (فی پیج 10 روپے)	35,000 (سالانہ)
فیکس کے استعمال سے حاصل شدہ آمدن	
2 پیج فی دن (20 روپے فی پیج)	14,000 (سالانہ)
قیمت فروخت میں شرح اضافہ	10 فیصد

جدول نمبر 10: اخراجات کے مفروضے

پرنٹنگ کے اخراجات (فی پرنٹ کی شرح کا)	30 فیصد
فیکس (فی فیکس کی شرح کا)	30 فیصد
انٹرنیٹ کنکشن کے اخراجات	30,000 (سالانہ)
پرنٹنگ اینڈ سٹیشنری	24,000 (سالانہ)
تفریحات	18,000 (سالانہ)
بجلی کی شرح میں اضافہ	**10 فیصد**
بجلی کے اخراجات (ماہانہ)	15,000
شرح فرسودگی دفتری آلات وغیرہ	33 فیصد
شرح فرسودگی فرنیچر و آلات وغیرہ	10 فیصد

جدول نمبر 11: مالیاتی مفروضات

کاروبار کی مدت	10 سال
بینک قرضہ	90 فیصد
ذاتی سرمایہ	10 فیصد
قرضے کی مدت	8 سال
رعائتی مدت	1 سال
شرح منافع	8 فیصد

نوٹ۔ سمیڈا کی جانب سے وزیر اعظم یوتھ بزنس لون سے متعلق تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جا رہی ہیں